



# سگریٹ کی اسمگلنگ پر PMI کی فنڈ یافتہ رپورٹ میں گہری خامیاں پائی گئیں

## پس منظر

پراجیکٹ سٹیلا، اکاؤنٹنسی کی عالمی فرم KPMG کی جانب سے جاری کردہ رپورٹس کا ایک سلسلہ ہے، جسے فلپ مورس انٹرنیشنل (PMI) نے یہ کام دیا تھا۔ جون 2019 میں شائع ہونے والی پہلی رپورٹ نے یورپین یونین (EU) میں مجموعی طور پر سگریٹ کی اسمگلنگ کے مسئلے کا احاطہ کیا۔ حالیہ ترین رپورٹ، "پراجیکٹ سٹیلا: EU میں سگریٹ کی غیر قانونی تیاری"، نومبر 2019 میں شائع کی گئی اور صرف غیر قانونی سگریٹوں کی تیاری پر مرکوز ہے۔ PMI قصور واروں اور غیر قانونی تمباکو کی تجارت کی ساخت کے حوالے سے اپنے پیغامات میں اس رپورٹ کا حوالہ دیتی ہے۔

KPMG نے PMI اور EU کے درمیان غیر قانونی تجارت کے خلاف ایک معاہدے کے بعد، 2011 میں PMI کے لیے تمباکو کی غیر قانونی تجارت کے بارے میں رپورٹس بنانی شروع کیں، جس سے وہ قانونی اقدامات حل ہو گئے، جو EU نے PMI کے خلاف تمباکو کی غیر قانونی تجارت کے نتیجے میں اٹھائے تھے۔

## دیگر نقائص:

- یہ رپورٹ PMI کی جانب سے فنڈ یافتہ ہے۔ یہ کام PMI اور KPMG کے درمیان ایک نجی معاہدے کا نتیجہ ہے اور لہذا، ایک کاروباری دستاویز ہے، نہ کہ ایک شفاف تحقیق۔ اس رپورٹ کو کسی پیر-ریویوڈ جریدے میں شائع نہیں کی گئی، لہذا اس کی کوئی علمی جانچ پڑتال نہیں ہوئی۔ تمباکو کی غیر قانونی تجارت کے متعلق صنعت کی جانب سے فنڈ یافتہ ڈیٹا مشہور طور پر ناقابل بھروسہ ہے اور اس پر اکیڈمکس اور NGOs نے [بار بار تنقید](#) کی ہے۔
  - اس رپورٹ کا اعلان دستبرداری KPMG پر سے ذمہ داری ہٹاتا ہے۔ اعلان دستبرداری پڑھنے والوں کو بتاتا ہے کہ اس رپورٹ پر انحصار کرنے والے لوگ اپنے خطرے پر ایسا کر رہے ہیں اور KPMG کوئی ذمہ داری نہیں لیتا۔ یہ رپورٹ میں معتبریت اور اعتماد کے احساس میں کمی کرتا ہے۔
  - یہ رپورٹ تمباکو کی غیر قانونی تجارت کے قصور واروں کے طور پر جرائم کے منظم گروہوں کو پیش کرتی ہے۔ یہ غیر قانونی تجارت کے ایک بنیادی (اور بڑے) حصے کے طور پر تمباکو کی صنعت سے دھیان ہٹانے کی کوشش ہے۔
  - اہم ڈیٹا جانچ پڑتال کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ مثلاً، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے فیکٹری پر چھاپے کا ڈیٹا، جسے KPMG کے نتائج کی بنیاد بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تمباکو سازوں کو فراہم کیا گیا ہے مگر عوامی طور پر دستیاب نہیں۔
  - کچھ صورتوں میں کسی نتیجے کے لیے "ماہرین انٹرویو دہندگان" ہی واحد حوالہ ہیں۔ مثلاً، اس دعوے کہ، "اگرچہ چھاپوں کا حجم ابھی بھی نسبتاً چھوٹا ہے، مغربی یورپ میں غیر قانونی تیاری کا ایک بڑھتا ہوا رجحان پایا جا رہا ہے" کی بنیاد کے طور پر واحد ذریعہ ماہرین کے انٹرویو ہیں۔
- تمباکو کی غیر قانونی تجارت پر آزادانہ تحقیق کی ضرورت ہے**
- تحقیق کے مطابق تمباکو کی صنعت بلیک مارکیٹ میں ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے باوجود، یہ صنعت فنڈ فراہم کرنے والوں اور ڈیٹا کے ایک نمایاں ماخذ کے طور پر اپنے مقام کو اسے چھپانے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ EU اور باقی دنیا میں تمباکو کی غیر قانونی تجارت کے اصل حالات کے متعلق درست معلومات کے لیے مزید آزادانہ ڈیٹا درکار ہے۔
- غیر قانونی تجارت میں تمباکو کی صنعت کے کردار اور اس کے پیچھے کے مقاصد کے بارے میں [مزید پڑھیں](#)۔

## بنیادی نقص: یہ رپورٹی اہم ترین مسئلے کو نظر انداز کر رہی ہیں، تمباکو کی غیر قانونی تجارت میں صنعت کی پیچیدگی۔

- ضبط ہونے والی مصنوعات کا عالمی ڈیٹا بتاتا ہے کہ غیر قانونی مارکیٹ میں زیادہ تر سگریٹ (دو تپائی تک) تمباکو کی صنعت کی مصنوعات نظر آتے ہیں اور اس حوالے سے [بڑھتے ہوئے ثبوت](#) مل رہے ہیں کہ یہ صنعت غیر قانونی تجارت میں سہولت کاری کرنا جاری ہے۔
- پراجیکٹ سٹیلا کی پہلی رپورٹ نے غیر قانونی مارکیٹ میں تمباکو کی بین الاقوامی کمپنی کی مصنوعہ کی موجودگی ظاہر کی، مگر اسے درست طریقے سے مخاطب کرنے کی بجائے رپورٹ نے ان اعداد و شمار کو ظاہر کرنے کے لیے "غیر قانونی اور جعلی اشیاء" کی اصطلاح استعمال کی۔
- پہلی رپورٹ اسے ایک بنیادی طور پر غیر قانونی (تمباکو کی صنعت کی مصنوعہ) کے طور پر بیان کرتی ہے، جس میں بہت کم جعلی اشیاء ہیں۔ اس اصطلاح کا استعمال تمباکو کی صنعت کو اپنی شمولیت سے چھپانے اور دور کرنے کی ایک کوشش نظر آتا ہے۔
- دوسری رپورٹ نے "غیر قانونی اور جعلی اشیاء" کی تعریف تک نہیں کرتی اور اس کی بجائے غیر قانونی وائٹس (تمباکو کی چھوٹی کمپنیوں کے سگریٹ، جو اکثر قانونی طور پر بنائے جاتے ہیں، مگر اس کے بعد سرحدوں سے اسمگل کر کے غیر قانونی طور پر فروخت کیے جاتے ہیں) کے ماخذ پر توجہ مرکوز کی۔ یہ ایک شعبہ ہے، جو کم مسئلہ ہے اور اس میں PMI پر کم ذمہ داری آتی ہے۔